

دنیا اور آخرت کی بھلائی اور قہرتم کے شر سے
حفاظت کے لیے اذعیماثورہ کا بہترین مجموعہ

منتخب مسنون دعائیں



انتخاب
مولانا مفتی محمد ایاز صاحب

یونیورسٹی آف اسلام آباد
فون: 0092-91-2245300

جامعہ تبلیغ القرآن

ناشر




دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فہم کے شر سے
حفاظت کے لیے اذیسا ماثورہ کا بہترین مجموعہ

منتخب مسنون دعائیں

تالیف

مولانا مفتی محمد ایاز صاحب

رئیس اجماعہ تبلیغ القرآن یوسف آباد پشاور



ناشر


جامعہ تبلیغ القرآن (رجسٹرڈ)

یوسف آباد، دلہزاک روڈ پشاور پاکستان

فون: 0092-91-2245300



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِهِ وَاٰلِهِمْ سَلَامًا



فہرست

- 1- پیش لفظ..... 1
- 2- ہدایات..... 1
- 3- جامع دعا..... 2
- 4- فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا..... 2
- 5- محبت الہی کے حصول کے لیے دعا..... 3
- 6- ذکر و شکر اور عبادت کی توفیق کے لیے دعا..... 3
- 7- ہدایت، تقویٰ اور پاکدامنی کے لیے دعا..... 4
- 8- دنیا و آخرت میں نور حاصل کرنے کے لیے دعا..... 4
- 9- دنیا و آخرت میں عافیت اور اہل و عیال کی حفاظت کے لیے جامع دعا..... 5
- 10- دین پر ثابت قدمی کے لیے دعا..... 6
- 11- رات کو سوتے وقت کی دعا..... 6
- 12- جامع دعا..... 7
- 13- قرض کی ادائیگی اور حلال رزق کے لیے دعا..... 7

نوٹ

جو حضرات مصروفیات کی وجہ سے روزانہ مکمل کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ صفحہ 29 سے صفحہ 35 تک صبح و شام کی دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔

پیش لفظ

دعا۔۔ تین حروف پر مشتمل یہ خوبصورت لفظ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے، دنیوی مسائل ہوں یا آخری تکالیف اور مصائب سے چٹا مقصود ہو یہی سہ حرفی لفظ امید کی ایک کرن ثابت ہوتا ہے اور اسی کو سہارا سمجھ کر بے اختیار انسان کے ہاتھ خالق کائنات کے سامنے اٹھ جاتے ہیں اور ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اگر آنسوؤں کے دوچار موتی بھی شامل ہو جائیں تو سونے پہ سہاگہ بن جاتا ہے۔

دنیا میں ہر انسان اپنی حاجت براری کے لئے دعائی کو آخری ذریعہ بناتا ہے حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کی برگزیدہ مخلوق انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی دعا کے ذریعے اپنے مسائل حل کرائے ہیں، انہیں جو بھی مسئلہ پیش آیا دعا ہی کے ذریعے اللہ کریم سے حل کر وایا۔ قوم کی ہدایت ہو، نافرمانوں سے نجات ہو، ولد صالح کی تمننا ہو، عبادت و بندگی کو سند قبولیت درکار ہو، اور سب سے بڑھ کر پوری بنی نوع انسانیت کے لیے رہبر و رہنما کی طلب ہو، سب مواقع پر انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ خالق کائنات کے حضور اٹھتے نظر آتے ہیں۔ خود مالک کائنات کا فرمان ہے کہ: **”وَيَدْعُونََنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔“**

اور اس جیسی دیگر آیات میں یہی مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ دعا ہی ہے جس کے بارے میں خود باری تعالیٰ کا حکم ہے **”ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“** کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دنیا میں کسی سے مانگو تو ناک بھوں چڑھاتا ہے لیکن کائنات کے پالنے سے مانگو تو خوش ہوتا ہے اور نہ مانگو تو ناراض رہتا ہے۔ ذیل میں مختلف مواقع پر پڑھی جانے والی دعائیں لکھی جاتی ہیں انہیں اگر روزانہ پڑھا جائے تو دنیا و آخرت کے بہت سے فوائد و منافع حاصل ہونگے۔ ان شاء اللہ

ہدایات

- (1) کتناچے میں مذکورہ دعاؤں اور اذکار کی ابتدا اور آخر میں درود شریف کا التزام کیا جائے۔
- (2) دن/رات میں اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص وقت مقرر کر کے اس کی پابندی کی جائے۔
- (3) مفہوم کو مد نظر رکھ کر شوق اور توجہ سے مذکورہ اذکار اور دعاؤں کا ورد کیا جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامع دعا

رَبَّنَا اتِّبَانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

ترجمہ: اے ہمارے رب! تو ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب

سے بچالے۔ (بقرہ: ۲۰۱)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلْغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! بے شک ہم آپ سے اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا آپ سے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نے سوال کیا اور ہم ہر اس [بری] چیز کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جس سے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نے پناہ طلب کی، آپ ہی مددگار ہیں اور آپ ہی کفایت ہیں [یعنی آپ ہی سب کی حاجت برآری کیلئے کافی ہیں] برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ (ترمذی)

فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَقَّفَنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ۔

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے اچھے کام کرنے، برے کام چھوڑنے اور مساکین سے محبت کا

سوالی ہوں اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور جب تو اپنے بندوں پر کسی آزمائش کا

ارادہ کرے تو بغیر کسی آزمائش کے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا بھی جو تجھ سے محبت رکھتا ہو اور ہر ایسے عمل کی محبت کا خواستگار ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔“ (ترمذی، حاکم)

محبت الہی کے حصول کے لیے دعا

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ فَأَجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيهَا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحَبُّ فَأَجْعَلْهُ فِرَاقًا لِي فِيهَا تُحِبُّ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! آپ مجھے اپنی محبت عطا فرمائیے اور ہر اس شخص کی محبت مرحمت فرمائیے جس کی محبت آپ کے نزدیک مجھے نفع دے۔ یا اللہ تعالیٰ! پس جس طرح آپ نے مجھے وہ چیزیں دی ہیں جو میں پسند کرتا ہوں تو [اسی طرح] ان [چیزوں] کو اس چیز کی قوت [کا ذریعہ بھی] بنا دیجئے جو آپ کو پسند ہیں، اور اے اللہ تعالیٰ! جس طرح آپ نے مجھ سے ان چیزوں کو دور رکھا ہے، جو مجھے پسند ہیں تو [اسی طرح] آپ مجھے ان چیزوں میں [مصروف کر دے] جو آپ کو پسند ہیں [اور مجھے میری پسند سے] فارغ البال بنا دیجئے [کہ ان کا خیال بھی نہ آئے]۔ (ترمذی، راوی)

ذکر و شکر اور عبادت کی توفیق کے لیے دعا

اللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! میری مدد فرمائیے تیری یاد کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں اور اچھی طرح تیری عبادت کرنے میں۔ (ابوداؤد، نسائی، احمد، حاکم۔ راوی)

ہدایت تقویٰ اور پاکدامنی کے لیے دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتُّقَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْغَنَىٰ

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! بے شک میں آپ سے ہدایت، گناہوں سے بچاؤ، پاکدامنی اور مخلوق سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ (مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، احمد)

دنیا و آخرت میں نور حاصل کرنے کے لیے دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًا وَفِي كَحْبِي نُورًا وَفِي دَمِي نُورًا وَفِي شَعْرِي نُورًا وَفِي بَشَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا فِي عِظَامِي وَاعْظُمْ لِي نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! میرے دل میں نور [روشنی] پیدا فرما دیجئے اور میری زبان میں، میرے کان، میری آنکھ میں نور ڈال دیجئے اور میرے داہنی طرف اور بائیں طرف روشنی فرما دیجئے اور میرے آگے، پیچھے روشنی کر دیجئے اور میری جان میں نور عطا فرما، اے اللہ مجھے نور عطا فرما، میرے پٹھوں کو نور بنا اور میرے گوشت میں اور میرے خون میں اور میرے بالوں میں اور میرے جلد میں نور بنا دے۔ اے اللہ میرے لیے قبر میں نور پیدا فرما، میری ہڈیوں میں نور بنا دے اور روز قیامت میرے لیے روشنی کو بہت بڑا کر دیجئے۔

(بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، احمد، ابن ابی شیبہ، ابن السننی)

دنیا و آخرت میں عافیت اور اہل و عیال کی حفاظت کے لیے جامع دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
 الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي
 وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي
 وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت طلب کرتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے اپنے دین، دنیا، خاندان اور مال (معاملات) میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میری پردہ داری فرما اور میری گھبراہٹ کو امن و اطمینان سے بدل دے۔ اے اللہ میرے آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما۔ اور تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ نیچے کی طرف سے مجھ پر کوئی آفت آئے۔ (ابوداؤد)

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ،
 مَا ضِ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ،
 سَمَّيْتِ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ،
 أَوْ اسْتَأْذَنْتِ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبِيْعَ قَلْبِي
 وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَبِي۔

ترجمہ: اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے قبضہ میں ہے، میری زندگی میں تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ میرے بارے میں تیرا فیصلہ ہی انصاف والا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نام کے ذریعہ جو تیرا ہے،

جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا جو اپنے علم غیب میں رکھا ہوا ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے غم و اندوہ کے دور کرنے کا ذریعہ بنا لے۔ (احمد)

دین پر ثابت قدمی کے لیے دعا

اللَّهُمَّ مَقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبَنَا عَلَى دِينِكَ۔ (نسائی، ترمذی، احمد، حاکم)

ترجمہ: اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے! تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔

اللَّهُمَّ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ۔

ترجمہ: یا اللہ! دلوں کو پھیر دینے والے! آپ ہمارے دلوں کو اپنی فرمان برداری کی طرف

پھیر دیجئے۔ (مسلم، نسائی)

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَثَبِّتْنِي وَسَدِّدْنِي۔

ترجمہ: اے اللہ! مجھے ہدایت دیجئے، مجھے ثابت قدم اور درست رکھے۔ (حسن حسین)

رات کو سوتے وقت کی دعا

اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي الْيُكَّ وَوَجْهْتُ الْيُكَّ وَجْهِي الْيُكَّ وَفَوَضْتُ أَمْرِي الْيُكَّ

وَالْجَأْتُ ظَهْرِي الْيُكَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً الْيُكَّ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَأَ مِنْكَ إِلَّا

إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! میں نے اپنی جان آپ کے حوالے کر دی اور اپنے رخ کو آپ کی طرف

پھیر دیا اور اپنے کام کو آپ کے سپرد کر دیا اور اپنی پیٹھ کو آپ کی پناہ میں دے دیا (اور میں

نے آپ کو اپنا پشت پناہ بنا لیا) آپ کی [رحمت کی] رغبت اور آپ کے [عذاب کے] خوف سے اور [آپ کی پکڑ سے بچنے کا] آپ [کی رحمت] کے سوا کوئی ٹھکانا اور جائے پناہ نہیں۔ اور جو کتاب آپ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا اور جو نبی آپ نے بھیجا ہے اس پر بھی ایمان لایا۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، راوی)

جامع دعا

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْظِمْنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضِنَا وَارْضِ عَنَّا۔

ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ! ہمیں (ہر چیز میں) بڑھادے، کم نہ کر، ہمیں عزت دے بے عزت نہ کر، ہمیں عطاء کر دے، ہمیں محروم نہ کر، ہمیں غلبہ دے مغلوب نہ بنائے، ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ (ترمذی)

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ حَيَاةً لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ حَيَاةً لِي۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! آپ مجھے زندہ رکھئے جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں اچھا ہو اور مجھے موت دیجئے جب مرنا میرے حق میں بہتر ہو۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، راوی)

قرض کی ادائیگی اور حلال رزق کے لیے دعا

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنِ سِوَاكَ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! آپ میری کفایت فرمائیے اپنے حلال کے ذریعے سے حرام کے مقابلے میں اور اپنے فضل کے ذریعے سے دوسروں سے بے نیاز کر دیجئے۔ (ترمذی، احمد، حاکم)

بڑھاپے میں رزق کی وسعت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَأَنْقِطَاعِ عُمْرِي

ترجمہ: اے اللہ بڑھاپے اور آخری عمر تک میری رزق وسیع کر دے۔ (سلسلہ الاحادیث الصحیحہ)

مال اولاد کی کثرت اور برکت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالِي وَوَلَدِي وَبَارِكْ لِي فِيهَا أَعْطَيْتَنِي وَأَطْلُ حَيَاتِي عَلَى

طَاعَتِكَ وَأَحْسِنْ عَمَلِي وَاعْفُرْ لِي۔ (سلسلہ الاحادیث الصحیحہ)

ترجمہ: اے اللہ میرا مال اور میری اولاد زیادہ کر اور جو چیز مجھے دیتا ہے اُس میں برکت

ڈال، اطاعت کے لئے میری عمر طویل کر اور میرا عمل بہتر کر اور مجھے معاف کر۔

دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعا

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ

الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَ

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لَنَا أَعْطَيْتَ وَلَا

مُعْطَى لَنَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لَنَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! آپ میرے دین کی اصلاح کر دیجئے جس کو آپ نے میرے [ہر دینی و دنیوی]

کام کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے اور میری دنیا کو بھی سدھار دیجئے جس میں آپ نے میری

معیشت تجویز فرمائی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ! میں آپ کی رضا کی پناہ لیتا ہوں آپ کے قہر و

غضب سے۔ اور آپ کی معافی کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی گرفت سے۔ جو آپ عطا فرمائیں اس

کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو منع فرمائیں [نہ دیں] وہ کوئی دے نہیں سکتا اور آپ کے فیصلہ کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ سے نہیں بچا سکتی۔

(نسائی، ابن خزیمہ، ابن السنی، طبرانی، ابن حبان)

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَايِشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَأَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔

ترجمہ: اے اللہ! میری دینی حالت درست فرمادے جس پر میری دنیا و آخرت کا مدار ہے، اور میری دنیا کو درست فرمادے جس میں میں نے یہ زندگی گزارنا ہے، اور میری آخرت کو درست فرمادے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور میری زندگی کو خیر و بھلائی میں اضافہ کا ذریعہ بنا دے اور میری موت کی ہر شے سے راحت کا وسیلہ بنا دے۔ (مسلم)

گناہوں کی مغفرت اور علم کی زیادتی کے لیے دعا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ بِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُنِزْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔

ترجمہ: اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا طلب گار ہوں۔ الٰہی تو میرے علم کو بڑھادے اور ہدایت فرمادینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھامت کر اور اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ (ابوداؤد)

اللہ کی رحمت اور گناہوں سے حفاظت کی دعا

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ
مِنْ كُلِّ آثَمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَدٍّ وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے (اُن کاموں کی توفیق کا) جو تیری رحمت کو واجب کرتی ہیں اور
تیری بخشش کی اُمیدوں کا اور ہر گناہ سے بچنے کا اور ہر نیکی (کے کاموں) میں حصہ پانے
کا اور جنت کے ساتھ کامیابی اور جہنم سے نجات کا طلبگار ہوں۔ (حاکم)

علم نافع، رزق حلال اور عمل مقبول کے لیے دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو، اور ایسے عمل کا
جو تیرے ہاں قابل قبول ہو اور ایسے رزق کا جو پاک ہو۔ (ابن السنی ابن ماجہ)

تمام امور کی درستی کے لیے دعا

اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي
كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری ہی رحمت کا امید رکھتا ہوں، تو مجھے تھوڑے وقت کے لئے بھی
میرے نفس کے حوالہ نہ کر اور میرے تمام کام درست فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی
معبود (کام بنانے والا) نہیں۔ (ابوداؤد)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتُلْمُ بِهَا شَعْرَتِي۔

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ایسی رحمت کا جو میرے کاموں کو حل کر دے اور دور ہو اس کے ساتھ میری پرانگی۔

سید الاستغفار

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ: اے اللہ! تو میرا رب ہے تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میرا تیرا بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد کا پابند ہوں اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اپنے اعمال کے شر سے، اپنے اوپر تیری نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں پس مجھے معاف کیجئے [بے شک] تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ (بخاری)

طلب خیر اور شر سے حفاظت کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فُجَاءَةِ الْخَيْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ الشَّرِّ۔

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ناگہانی [غیر متوقع] خیر کا اور پناہ مانگتا ہوں ناگہانی شر سے۔ [کتاب الادکار]

بدن اور اعضاء بدن کی عافیت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ: اے اللہ! میرے بدن میں، میری سماعت اور نگاہ میں عافیت دے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے عذاب قبر کی پناہ مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ [ابوداؤد و احمد]

بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي وَتَضَعِ وِزْرِي وَتُصَلِّحَ أَمْرِي وَتُطَهِّرَ قَلْبِي وَتُحَصِّنَ فَرْجِي وَتُنَوِّرَ قَلْبِي وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ۔ آمِينَ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا ذکر بلند فرمادیجئے، میرا بوجھ اتار دیجئے، میرے کام درست کردیجئے، میرا دل پاک فرمادیجئے، میری شرم گاہ کو محفوظ فرمادیجئے، میرا دل روشن کردیجئے اور میرا گناہ بخش دیجئے اور میں آپ سے جنت میں بلند درجات کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ! میری دعا قبول فرمادیجئے۔

(حاکم، طبرانی فی الاوسط و فی الکبیر)

گناہوں کی بخشش کے لیے دعا

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اللَّهُمَّ نَقِّبْنِي مِنْهَا كَمَا يُنْقَى الثُّوْبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّائِسِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ۔

ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ! مجھے گناہ اور خطا سے پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے اس طرح صاف
ستھر کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے
”برف“ اولے اور ٹھنڈے پانی کے ذریعے پاک کر دے۔ (نسائی و ترمذی)

اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے لیے دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبِرَدِّ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ
إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں تقدیر پر رضا کا، موت کے بعد آرام کی زندگی کا،
آپ کی زینت کی لذت کا اور آپ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں جو نقصان دہ سختی
اور گمراہ کرنے والے فتنے کے بغیر ہو۔ (طبرانی الکبیر والاوسط، دیلمی)

ایمان و عافیت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا حَاشِعًا، وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا
نَافِعًا، وَأَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ
عَلَى الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! میں آپ سے دائمی ایمان کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے ڈرنے والے
دل کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے سچے یقین کا

سوال کرتا ہوں، میں آپ سے ہمیشہ کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے عافیت پر شکر کا سوال کرتا ہوں اور میں آپ سے لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ (کنز العمال)

اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ۔

ترجمہ: اے اللہ کھڑے ہونے کی حالت میں اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما اور بیٹھنے کی حالت میں اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما اور سونے کی حالت میں اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما اور کسی دشمن اور حسد کرنے والے کو مجھ پر خوش نہ کر۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جس کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں اور ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ (حاکم)

شکر کی توفیق ملنے کے لیے دعا

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔

ترجمہ: اے میرے رب! میری قسمت میں کر دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام نیک جو تو پسند کرے اور ملا لے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ (نمل: ۱۹)

صبر و شکر کے لیے دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا
وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا۔

ترجمہ: اے اللہ! مجھے صبر کرنے والا بنا اور مجھے شکر گزار بنا۔ اے اللہ! مجھے میری اپنی نظر میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا۔ (حسن حصین)

اوقات میں برکت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صَلَاحَ السَّاعَاتِ وَبَرَكَاتَ فِي الْأَوْقَاتِ۔

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے ساعات کی اصلاح اور اوقات کی برکت کا سوال کرتا ہوں۔

ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحًا۔

ترجمہ: اے اللہ! میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرا ظاہر درست فرما دے۔

نیک اعمال اور اچھے اخلاق کے لیے دعا

اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا
إِلَّا أَنْتَ وَقِيْنِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئِ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ: اے اللہ! عمدہ اعمال اور بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، اعمال و اخلاق کی عمدگی کی ہدایت تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور مجھے برے اعمال اور برے اخلاق سے بچالے۔

تیرے علاوہ کوئی ان سے نہیں بچا سکتا۔ (نسائی)

خشیت الہی کے حصول اور گناہوں، نافرمانیوں سے بچنے کی دعا

اللَّهُمَّ اِقْسِمْنَا لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ
وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا
مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسَاعِدِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا
وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ
عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا
مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مِنْ لَا يَرْحَمُنَا۔

ترجمہ: اے اللہ! اپنا ڈر ہمارا مقدر بنادے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان اڑ بن جائے، اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور ایسا یقین نصیب فرما جس کے ہوتے ہوئے دنیا کے مصائب ہلکے ہو جائیں۔ اور ہمیں ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور ہماری (دوسری) قوتوں سے اُس وقت تک ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائیے جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں۔ اور ان چیزوں کو ہمارے جیتے جی باقی رکھئے۔ اور ہمارا بدلہ ان لوگوں سے لیجئے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا اور ان لوگوں کے خلاف ہماری مدد کیجئے جو ہم سے عداوت کا معاملہ کریں اور ہمیں پہنچنے والی مصیبت ہمارے دین پر نہ ڈالئے۔ اور نہ ہمارے علم کا دائرہ دنیا تک محدود رکھئے۔ اور نہ ہمارے شوق و رغبت کی آخری حد دنیا کو بنائیے اور ہم پر کوئی ایسا شخص مسلط نہ کیجئے جو ہم پر رحم نہ کرے۔ (ترمذی)

مشقت، بد بختی اور بُری تقدیر سے بچنے کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَ
شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ۔ (بخاری، مسلم، نسائی، دیلمی)

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! بے شک میں مصیبت کی مشقت، بد بختی کے حصول، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے [بسبب میری مصیبت کے] آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔

نیک اہل و عیال کے لیے دعا

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

ترجمہ: اے رب! دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کرہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ (فرقان: ۷۴)

قناعت اور برکت کی دعا

اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَأَخْلِفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ۔

ترجمہ: اے اللہ! تو نے جو مجھے عطا فرمایا، اُس پر مجھے قناعت عطا فرما، اس میں میرے لئے برکت عطا فرما اور جو مجھے نہیں ملا اُس میں بھی میرے لئے بھلائی بنا دے۔ (حاکم)

اعضاء کی حفاظت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهَا الْوَارِثَ مِنِّي وَأَنْصُرْنِي عَلَى
مَنْ ظَلَمَنِي وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي۔ (ترمذی)

ترجمہ: اے اللہ! مجھے اپنے کانوں اور آنکھوں سے کام لینے والا بنا اور انہیں میرا وارث بنا (یعنی میں ان سے ایسے کام کر جاؤں جو میری موت کے بعد بھی جاری رہیں) اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے تو میرا بدلہ لے۔

مشکل کی آسانی کے لیے دعا

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا۔

ترجمہ: اے اللہ! کوئی بات آسان نہیں سوائے اس کے جسے تو آسان کر دے۔ اور تُوْجِبْ

چاہتا ہے غم (کے بوجھ) کو آسان (ہلکا) کر دیتا ہے۔ (ابن حبان)

نیک انجام کے لیے دعا

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔

ترجمہ: یا اللہ! ہمارے ہر کام کا انجام بہتر فرمائیے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے

عذاب سے محفوظ رکھئے۔ (حاکم، احمد، ابن حبان)

معافی کے لیے دعا

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! بے شک آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند

فرماتے ہیں، مجھے بھی معاف فرمادیجئے۔ (ترمذی، نسائی)

نیک کام کی توفیق حاصل کرنے کی دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَيْبَتِي وَهَوَايَ فَيْبًا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔

ترجمہ: اے اللہ میری ہمت اور خواہشات اُس طرف پھیر دیں جو تجھے محبوب ہو اور تجھے پسند ہو۔

گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

ترجمہ: یا اللہ! بیشک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم [گناہ] کئے ہیں اور آپ کے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ پس آپ اپنی خاص مغفرت سے میرے [سب] گناہ بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ بے شک آپ ہی بہت مغفرت کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔
(بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ترجمہ: اے ہمارے رب! ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر۔ اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ (الاعراف: ۲۳)

گناہوں کی مغفرت اور ثابت قدمی کے لیے دعا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

ترجمہ: اے ہمارے رب! بخش دے ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں اور ثابت رکھ ہمارے قدم اور مدد دے ہم کو کافر قوم پر۔ (آل عمران: ۱۴۹)

ہر قسم گناہ کی مغفرت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر گناہ اور میں نے جو زیادتی کی اور
[میرے وہ گناہ] جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بخش دیجئے آپ ہی آگے بڑھانے
والے اور آپ ہی پیچھے ہٹانے والے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
(مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، دیلمی)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ: میں معافی مانگتا ہوں اُس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ اور
زندگی کو قائم رکھنے والا ہے اور میں اُسی کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔

گناہوں کی مغفرت، گھر اور رزق میں برکت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے گھر میں وسعت پیدا فرمائیے اور میرے
رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ (ترمذی، نسائی، دارمی)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي۔

ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دیجئے، اور مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت اور
رزق عطا فرما۔ (مسلم)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَاكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُبْدِئُ وَأَنْتَ الْمُوْخِرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

ترجمہ: اے اللہ! تو مجھے معاف فرما دے میری خطائیں، اپنے دین کے متعلق میری جہالت اور تجاوز، اور وہ سب کچھ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ! میری وہ خطائیں بھی معاف فرما جو ہنسی مذاق میں ہو گئیں ہو وہ بھی جو میں نے سنجیدگی سے کیں۔ یہ سب طرح کی خطائیں میں نے ہی کی ہیں۔ اے اللہ! میرے گناہوں کے اخروی اور دنیاوی اثرات بھی معاف فرما، میرے پوشیدہ اور اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما اور وہ بھی جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی مقدم ہے، تو ہی موخر ہے، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ (بخاری، مسلم)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

ترجمہ: اے ہمارے رب! نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اے ہمارے رب! نہ رکھ ہم پر بھاری بوجھ جیسا کہ رکھا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ اے ہمارے رب! اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں اور درگزر کر ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا رب ہے مدد کر ہماری کافروں پر۔ (البقرہ: ۲۸۶)

عذاب قبر اور فتنوں سے حفاظت کے لیے دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور کانے دجال کے فتنہ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور زندگی و موت کے فتنہ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ میں گناہ اور قرض سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی)

سستی، بزدلی، قرض اور فتنوں سے حفاظت کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ،
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ
فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ
اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى
الذُّبُّ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ
بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔

ترجمہ: یا اللہ! بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سستی سے، بزدلی سے، بہت بڑھاپے سے، قرض سے اور گناہ سے۔ یا اللہ تعالیٰ! بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، مالداری کی آزمائش اور محتاجی کی آزمائش کے شر سے اور کانے دجال کے شر سے۔ یا اللہ تعالیٰ! میری خطاؤں کو برف اور اولوں

کے پانی سے دھو ڈالئے اور میرے دل کو غلطیوں سے پاک کر دیجئے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے، مجھے گناہوں سے اتنا دور رکھے جتنا آپ نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور رکھا ہے۔ (بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! میں پریشانی اور غم سے، عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں نیز قرض کے غلبہ اور لوگوں کے زور [و ظلم] سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ (ابوداؤد)

اللہ کے غضب سے حفاظت کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعْفَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔

ترجمہ: یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعہ تیرے غصہ سے، اور تیری معافی کے ذریعہ تیرے عذاب سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب و قہر سے، میں تیری خوبیوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ (ابوداؤد)

نعمت اور عافیت کے زوال سے بچنے کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَبِيحِ سَخَطِكَ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! بے شک میں آپ کی نعمت کے زوال، آپ کی عافیت کے بدلنے، آپ کے

ناگہانی عذاب اور آپ کے ہر قسم کے غضب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ (مسلم، ابوداؤد، نسائی)

پڑوسی اور اہل و عیال کے شر سے حفاظت کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ وَمِنْ زَوْجِ تُشَيْبِيْنِي قَبْلَ
الْمَشِيْبِ وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا
وَمِنْ خَلِيلٍ مَّا كَرِهَ عَيْنُهُ تَرَائِي وَقَلْبُهُ يَزْعَانِي إِنْ رَأَيْتُ حَسَنَةً
دَفَنْهَا وَإِنْ رَأَيْتُ سَيِّئَةً أَدَاعَهَا۔

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے ہمسائے سے، اور ایسے خاندان/بیوی سے جو

بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پر حاکم بنے۔ اور اس مال سے جو

عذاب بن جائے، اور چال باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھتی ہے مگر اس کا دل میری

ٹوہ میں رہتا ہے۔ اگر وہ میری کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کا ذکر تک نہیں کرتا مگر کوئی

برائی دیکھ لے تو اسے پھیلاتا پھرتا ہے۔ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ)

منافقت اور برے اخلاق سے حفاظت کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالتَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ
نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! بے شک میں [باہمی] مخالفت، منافقت اور برے اخلاق سے آپ کی پناہ

چاہتا ہوں۔ یا اللہ! بے شک میں چار چیزوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، غیر نفع بخش علم

سے، نہ ڈرنے والے دل سے، نہ سیر ہونے والے نفس سے اور اس دعا سے جو نہ سنی جائے [یعنی غیر مقبول دعا سے] (ابوداؤد)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ۔

ترجمہ: اے اللہ میں اس عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا ہے اور جو عمل میں نے نہیں کیا اس کے شر سے بھی۔ (مسلم)

قرض اور دشمن کے غلبے سے بچنے کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ العَدُوِّ وَشِمَاتَةِ الأعدَاءِ۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! بے شک میں قرض اور دشمن کے غلبے اور [میری مصیبت پر] دشمنوں کے خوش ہونے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ (نسائی، حاکم، ابن حبان)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ والأَعْمَالِ والأَهْوَاءِ والأَدْوَاءِ۔

ترجمہ: یا اللہ! بے شک میں برے اخلاق و اعمال اور بری خواہشات، نیز بری بیماریوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ (ترمذی، ابن حبان، حاکم)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لِدَيْغًا۔

ترجمہ: یا اللہ تعالیٰ! بے شک میں [مکان کے] نیچے دب کر مرنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بلندی سے گرنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، پانی میں ڈوبنے، آگ میں جلنے اور بہت

بڑھاپے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور موت کے وقت شیطان کے بدحواس کرنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر مرنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور [سانپ، بچھو وغیرہ کے] کاٹنے [کے سبب] مرنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ (ابوداؤد، نسائی، حاکم)

مختلف برے اخلاق اور خطرناک بیماریوں سے حفاظت کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْعَفْطَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّنْعَةِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكْمِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَسَيِّئِ
الْأَسْقَامِ وَضَلَعِ الدِّينِ۔ (ابن حبان، حاکم، ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: یا اللہ! میں دل کی سختی، غفلت، فقر وفاقہ، ذلت اور محتاجی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں فاقہ، کفر، نافرمانی، بد بختی اور نفاق اور محض دکھاوے کی عبادت [شہرت] سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں بہرے پن، گونگے پن، پاگل پن، جذام [کوڑھ کے مرض]، ہر بری بیماری اور قرض کے بوجھ سے [بھی] آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔

اللہ کے غضب اور مخلوق کے شر سے حفاظت کی دعا

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ۔

ترجمہ: میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں، اس کے غصے سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔ (ترمذی)

گھر سے نکلنے کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ أَوْ أُظْلِمَ
أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ۔

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے پناہ کا سوال کرتا ہوں اس بات سے کہ میں پھسل جاؤں
یا پھسلا یا جاؤں، میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے،
میں جاہل بنوں یا مجھے جاہل بنایا جائے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

حالت بد سے پناہ کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ وَمِنْ سَاعَةِ
السُّوءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ۔

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ پر پناہ مانگتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی، برے ساتھی اور
برے ہمسایہ سے قیام کی جگہ میں۔ (طبرانی)

تہجد کے وقت کی بہترین دعا

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي لَا
يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ
الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُسْتَفِيقُ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ
الْمُسْكِينِ وَأَبْتَهَلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الدَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ
الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ
وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَعِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا
وَكَنْ لِي رَعْوًا فَارًّا حَيْثُمَا يَا خَيْرَ الْمُسْتَوْلِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ۔

ترجمہ: اے اللہ! تو میری بات سنتا ہے، اور میں جہاں اور جس حال میں ہوں تو اس کو دیکھتا ہے اور میرے ظاہر و باطن سے تو باخبر ہے، تجھ سے میری کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ میں ڈکھی ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، ترساں ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقراری ہوں۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں جیسے کوئی عاجز مسکین بندہ سوال کرتا ہے۔ تیرے آگے گڑگڑاتا ہوں جیسے گنہگار ذلیل و خوار گڑگڑاتا ہے، اور تجھ سے دعا کرتا ہوں جیسے کوئی خوف زدہ آفت رسیدہ دعا کرتا ہے۔ اور اس بندے کی طرح مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو اور آنسو بہہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کئے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ! تو مجھے اس دعا مانگنے میں ناکام اور نامراد نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحیم ہو جا۔ اے ان سب سے بہتر و برتر جن سے مانگنے والے مانگتے ہیں اور جو مانگنے والوں کو دیتے ہیں۔“ (معارف الحدیث: ۱۸۹/۵)



صبح و شام کی دعائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّبِيْعُ الْعَلِيْمُ۔ (صبح و شام تین بار)

ترجمہ: اُس اللہ کے نام سے شروع ہے جس کے نام کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے، جاننے والا ہے۔ (بخاری، ترمذی، ابوداؤد)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ۔ (صبح اور شام کے وقت سات بار)

ترجمہ: اے اللہ! مجھے (دوزخ کی) آگ سے بچالے۔ (ابوداؤد و ترمذی)

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ (صبح و شام تین بار)

ترجمہ: میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد ﷺ کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ (ابوداؤد)

صبح کی دعا

اَصْبَحْنَا وَاصْبِحْ الْمَلِكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هَذَا
الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاةً وَّاعُوْذِيْكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ
وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ۔

ترجمہ: صبح کی ہم نے اور کائنات [دنیا] نے اللہ کے لئے جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس دن کے خیر کا، اس کی فتح، نصرت، نور، برکت، اور ہدایت کا۔ اور پناہ مانگتا ہوں اس دن کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے۔ (ابوداؤد)

شام کی دعا

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَتَحَهَا وَنَصَرَهَا وَنَوَّرَهَا وَبَرَكْتَهَا وَهَدَاهَا وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا۔

ترجمہ: شام کی ہم نے اور شام کی کائنات نے اللہ کے لئے جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس رات کی خیر کا فتح، نصرت، نور، برکت، اور ہدایت کا اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے۔ (ابوداؤد)

ہر قسم کے جادو سے حفاظت کے لئے دعا

حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ چند کلمات اگر میں نہ کہتا تو یہود مجھ کو گدھا بنا دیتے۔ کسی نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں، تو انہوں نے یہ بتائے۔

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْئٌ أَغْطَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ
التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ مَا
عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ۔

ترجمہ: میں عظمت والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی چیز بڑی نہیں، اور اللہ کے پورے کلمات کے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی اچھا برا آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کے اُن بہترین ناموں کے ذریعہ سے جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ہر اُس چیز

کی برائی سے جسے اُس نے پیدا کیا بنایا اور پھیلایا۔ (منقولہ، مظاہر حق جدید)

دشمن کے شدت خوف سے حفاظت کے لئے دعا

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِنُورِ قُدْسِكَ وَبِرَكَّةِ طَهَارَتِكَ وَعَظَمَةِ جَلَالِكَ مِنْ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ۔ اللَّهُمَّ أَنْتَ غِيَاثُنَا فَبِكَ نَعُوذُ وَأَنْتَ عِيَاذُنَا فَبِكَ نَعُوذُ وَأَنْتَ مَلَاذُنَا فَبِكَ نَلُودُ۔ يَا مَنْ ذَلَّتْ لَهُ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ وَخَضَعَتْ لَهُ مَقَالِيدُ الْفَرَاغَةِ۔ أَجْرْنَا مِنْ خَيْرِكَ وَعَقُوبَتِكَ فَاحْرِسْنَا فِي لَيْلِنَا وَنَهَارِنَا وَنَوْمِنَا وَقَدَارِنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ تَعْظِيمًا لِرُوحِكَ وَتَكْرِيمًا بِسُلْطَانِكَ فَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ عِبَادِكَ وَاجْعَلْنَا فِي حِفْظِ عِنَايَتِكَ وَسُرَادِقَاتِ حِفْظِكَ وَعُدِّ عَلَيْنَا بِخَيْرٍ مِّنْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

ترجمہ: اے اللہ! ہم تیرے نور قدسی، طہارت کی برکت اور تیرے جلال کی عظمت کی پناہ چاہتے ہیں ہر کھٹکھٹانے والے سے سوائے اس کھٹکھٹانے والے کے جو بھلائی کے لئے کھٹکھٹاتا ہے۔ اے اللہ! تو ہمارا فریاد رس ہے ہم تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ! تو ہماری پناہ گاہ ہے ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں اور تو ہی ہمارا ٹھکانا ہے ہم تیری ہی رحمت کی گود میں آتے ہیں۔ اے وہ ذات جس کے سامنے ظالموں کی گردن جھک جاتی ہے اور فرعونوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے ہمیں اپنے عذاب اور پکڑ سے بچالے۔ دن رات اور سوتے جاگتے میں ہماری حفاظت فرما۔ تیرے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ تیری ذات کی تعظیم کرتے ہوئے اور تیری طاقت کا احترام کرتے ہوئے (ہم سوال کر رہے ہیں)۔ ہم سے بندوں کا شر دور کر دے۔ ہمیں اپنی مہربانی کی حفاظت اور اپنی

حفاظتی پردوں میں لے لے۔ ہمارے لیے اپنی طرف سے خیر کا معاملہ فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔

يَا سَتَّارُ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ۔ يَا حَفِيظُ يَا عَلِيمُ يَا قَدِيرُ۔

ترجمہ: اے سب کا پردہ رکھنے والے! اپنی خوبصورت پردہ پوشی سے ہماری بھی پردہ پوشی فرما۔ اے حفاظت کرنے والے! اے جاننے والے! اے قدرت والے!

دعائے سیدنا انسؓ

جو شخص روزانہ صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اس کو تکلیف دینے پر کوئی قادر نہیں ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ افْتَتَحْتُ وَبِاللّٰهِ خَتَمْتُ وَبِهِ أَمَنْتُ بِسْمِ اللّٰهِ أَصْبَحْتُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى قَلْبِي وَنَفْسِي بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى عَقْلِي وَذَهْنِي بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى أَهْلِي وَمَالِي بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى مَا أَعْطَانِي رَبِّي بِسْمِ اللّٰهِ الشَّافِي بِسْمِ اللّٰهِ الْمُعَافِي بِسْمِ اللّٰهِ الْوَافِي بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّبِيحُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ الَّذِي لَا يُعْطِيهِ غَيْرُكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَانُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنْ
شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ قَضَاءٍ سُوِّءٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ
أَخِذُ بِنَاصِيَتَيْهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
(اِنَّ وَلِيَّيَ اللّٰهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْتَجِيْبُ بِكَ وَاَحْتَجِبُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ وَاَحْتَرِسُ بِكَ مِنْ
جَمِيْعِ خَلْقِكَ وَكُلِّ مَا ذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ وَاَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُمْ وَاَفْوِضُ
اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَاَقْدِمُ بَيْنَ يَدَيَّ فِيْ يَوْمِيْ هَذَا وَتَلِيْبَتِيْ هَذِهِ وَسَاعَتِيْ هَذِهِ
وَشَهْرِيْ هَذَا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ لَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ
كُفُوًا اَحَدٌ ۝ وَعَنْ اَمَامِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ خَلْفِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ
يَسِيْنِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ يَسَارِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَمِنْ فَوْقِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَمِنْ
تَحْتِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ۔

ترجمہ: اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے نام سے جو اس کا بہترین نام ہے (مدد چاہتا ہوں) اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ ہی کے نام سے میں سے شروع کیا اور ختم کیا، اسی پر میں ایمان لایا۔ اللہ کے نام پر میں نے صبح کی اور اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اللہ ہی کے نام کی مدد چاہتا ہوں اپنے دل و جان پر اور اپنے عقل و ذہن پر۔ اور اپنے مال و اہل پر۔ اللہ ہی کے نام کی مدد چاہتا ہوں اُس پر جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ اللہ ہی کے نام پر جو شفا دینے والا، درگزر کرنے والا اور پورا پورا عطا کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے نام پر جس کے نام

کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اور وہی سننے جاننے والا ہے۔ وہی اللہ ہے وہی اللہ میرا رب ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور وہ اُن سب سے بڑھ کر عزت و عظمت و بزرگی والا ہے جن سے میں ڈرتا اور خوف کھاتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری خیر کے خزانوں میں سے خیر کا سوال کرتا ہوں۔ جو تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اُسے عزت ملی جو تیرے قریب ہوا، تیری تعریف بلند و برتر ہے، اور تیرے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں۔ اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، اور ہر طاقت والے کے شر سے، اور ہر سرکش شیطان کے شر سے، اور ہر معاند ظالم کے شر سے، اور ہر تقدیر کے شر سے، اور ہر جاندار کے شر سے جو تیرے قبضے میں ہے، بے شک میرا رب سب درست فیصلوں والا ہے۔ اور تو ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ (بے شک میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا اور وہی نیکو کاروں کا مددگار ہے)۔

اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور ہر چیز سے تیری اوٹ میں آتا ہوں جسے تو نے پیدا کیا، اور میں تمام مخلوق کے مقابلہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، جسے تو نے پیدا کیا اور پھیلا یا۔ میں اُن سب سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، اور اپنے کاموں کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تیرے حضور پیش آتا ہوں اس دن میں اس رات میں، اس گھڑی میں اور اس مہینے میں، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہم سر ہے۔ میرے آگے سے بھی اس طرح، میرے پیچھے سے بھی اسی طرح، اور میرے دائیں بائیں سے بھی اسی طرح اور میرے اوپر نیچے سے بھی اسی طرح۔ (کنز العمال)

دشمن اور ظالم حکمران سے بچنے کے لیے

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِبَأْسِئْتِ۔ ❁

ترجمہ: اے اللہ ان دشمنوں سے، جس کے ذریعے تو چاہے میری کفایت فرما۔ (مسلم)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ۔ ❁

ترجمہ: اے اللہ! ہم تجھے دشمنوں کے مقابلہ میں کرتے ہیں (کہ تو ان کو دفع فرما) اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ (ابوداؤد)

يَاعَزِيزُ يَا حَبِيبُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ اصْرِفْ عَنَّا شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ❁

ترجمہ: اے غلبہ والے! اے تعریفوں والے، اے عزت والے عرش کے مالک! ہر سرکش ہر عنادی کے شر کو ہم سے دور فرمادے۔

دعائے ابوالدرداءؓ

ہر قسم کے حادثات سے بچنے کی دعا

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ ❁

الْكَرِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

ترجمہ: اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تجھ ہی پر میں بھروسہ کرتا

ہوں اور تو عرش کریم کا مالک ہے، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا

اور ساری قوت و طاقت صرف عظمت و بلندی والے اللہ کے لئے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ ہی کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی برائی سے، اور ہر جاندار کی برائی سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بے شک میرے رب کے فیصلے ہی درست ہیں۔ (کنز العمال)

دعائے حاجت

دور کعت نفل صلوٰۃ حاجت کی نیت سے پڑھ کر پھر مندرجہ ذیل دعا پڑھیے
پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگیے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ
وَالْغَيْبَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ آثِمٍ لَا تَدْعِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا
هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جو حلیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کا موجب ہوں اور آپ کی پختہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور نیکی کرنے کی طاقت کا سوال کرتے ہوں اور مجھے ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو، اور کوئی تکلیف ایسی نہ چھوڑیے جس کو آپ نے دور نہ فرمایا ہو، اور کوئی حاجت جس میں آپ کی رضامندی ہو ایسی نہ چھوڑیے کہ اس کو آپ نے پورا نہ فرمایا ہو۔

(الترمذی۔ کتاب الصلوٰۃ)

دعائے استخارہ

پہلے دو رکعت نفل پڑھ کر پھر مندرجہ ذیل دعا پڑھیے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور میرے اندر قدرت نہیں۔ اے اللہ! آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا (یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے مجھے نہیں) آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ یا اللہ! اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ (اس موقع پر اس معاملہ کا تصور دل میں لائے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے) میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور اس میں میرے لئے برکت پیدا فرما دیجیے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بُرا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے جہاں بھی ہو۔ پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے۔

(صحیح البخاری۔ کتاب الدعوات)

مختصر استخارہ

اگر باقاعدہ استخارہ کرنے کا وقت نہ ہو یا جلدی ہو تو صرف یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ خِزْبِي وَاخْتَرْنِي۔ (ترمذی)

ترجمہ: اے اللہ! میرے لیے صحیح راستہ پسند فرما کر میرے لیے آپ ہی انتخاب فرما دیجیئے۔

یا یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ الْهِنْيِ رُشْدِي وَاعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِ أَمْرِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ

نَفْسِي۔ (احمد)

ترجمہ: اے اللہ میرے دل میں درست بات ڈال دے اور مجھے میرے درست کام کا پختہ

عزم عطا فرمائیے اور مجھے نفس کے شر سے بچائیے۔

آمین یا رب العالمین۔

